

برائے فوری اجراء

## اپنی مقامی سطح پر ہی دنیا بھر کے منفرد ذائقوں کا لطف اٹھائیں: سٹی آف برامپٹن نے برامپٹن فوڈ گائیڈ کا آغاز کر دیا ہے

برامپٹن، آن (1 مارچ 2021) – دنیا بھر سے ترغیب حاصل کرنے والی اور یہاں کی مقامی [برامپٹن فوڈ گائیڈ](#) اب آن لائن طور پر دستیاب ہے!

برامپٹن فوڈ گائیڈ میں 54 ریستوران اور مارکیٹس شامل ہیں اور یہ شہر کی بہترین سوغاتیوں، مقامی خانساموں کے من پسند کھانوں اور غذا کے درج ذیل مقامی انفلوئنسرز کی سفارشات کو نمایاں کرتی ہے:

- اینڈریا بیریت، صحت اور غذائیت کی مقرر
- سریش ڈاس، سی بی سی کے غذا اور مشروبات کے مصنف
- ایڈن ہبگوس، بلیک فوڈی نامی غذا کے ایک آن لائن پلیٹ فارم کے بانی
- رونس لی، سابق ٹیم کینیڈا پیسٹری شیف اور پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ہائی اسکول کے استاد
- رک متھارو، 'ریسیپی ٹو رچس' کے فاتح، رکس گڈ ایٹس کے خانسامہ، مالک
- کیفر نظریتہ، ڈیجیٹل مارکیٹر اور مسٹر سوشل ایٹس کے بانی
- بیویہ مانیٹی، پولیرس میوزک کے انعام یافتہ آرٹسٹ
- کرن رائے، ایکٹر اور کرٹیو ڈائریکٹر
- جیسن روزو، جے۔ ریڈ اینڈ کو۔ کے خانسامہ اور مالک

برامپٹن فوڈ گائیڈ کے متعلق مزید معلومات کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

### اقتباسات

"کینیڈا کی سب سے متنوع کمیونٹیوں میں سے ایک، سٹی آف برامپٹن کھانا پکانے کے فن کا ایک ایسا منفرد تجربہ پیش کرتا ہے، جو پوری دنیا کے فلیورز کے ساتھ مستند ذائقہ سے مالا مال ہے۔ ہماری نئی گائیڈ دیکھیں اور خودمختار کاروباروں کی محفوظ طریقے معاونت کرتے ہوئے عالمی کھانوں کے ذائقوں کی چھان بین کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"پہلی نسل کے بہت سے کینیڈین گھر میں پکے ہوئے کھانوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے والدین اپنے آس پاس کے نئے ذائقوں کے ساتھ ساتھ اپنے روایتی ذائقے بھی پسند کرتے تھے۔ ذائقوں کا امتزاج ایک ایسی چیز ہے جو نئے آنے والے خانساموں سے متاثر ہوتا ہے اور ہمارے شہر میں دستیاب، لاجواب فمخلوط کھانوں میں موجود ہے۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کی متنوع آبادی کو دنیا بھر سے اپنے منفرد ذائقے شیئر کرنے پر فخر ہے۔ برامپٹن بہت سارے باصلاحیت خانساموں کا گھر ہے، جو اپنے ثقافتی طریقوں پر چلتے ہوئے جدید کھانے بناتے ہیں۔ ہماری گائیڈ کی چھان بین کریں اور ممکن ہے کہ آپ کو اپنی نئی مقامی پسند مل جائے!"

- ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن رنگا رنگ آبادی کے حسین نگینوں سے جڑا ہوا ہے اور کینیڈا کی نویں سب سے بڑی آبادی کے طور پر 700,000 افراد کا گھر ہے، جو ایک متحرک کمیونٹی بناتے ہیں۔ یہ تنوع پورے شہر میں دستیاب کھانوں میں ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں اس نئی گائیڈ کی پیش کش کر کے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارے رہائشیوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ مقامی افراد کی معاونت کرتے ہوئے عالمی ذائقے چکھ سکیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن



## Media Release

جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)